



سوال

میں ایک بیوہ کو جانتا ہوں اور اس کے بچے بھی ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور متردد ہوں کہ آیا اس بیوہ سے شادی کروں یا کنواری لڑکی سے؟

جواب

المحدث

یہ خاوند کی حالت پر منحصر ہے، بعض اوقات خاوند کی حالت کے مطابق بیوہ عورت سے شادی کرنا مناسب ہوتا ہے اور یہ افضل ہوگا

ہو سکتا ہے بیوہ عورت دین و اخلاق والی عورت ہو اور اس جیسا اخلاق و دین کسی دوسری عورت میں نہیں، اور کنواری لڑکیوں میں اس طرح کا دین و اخلاق نہیں پائیگا

لیکن عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے

جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے اور اپنے پیچھے انہوں نے جابر کی بہنیں چھوڑیں تو ان کی حالت کے مناسب یہی تھا کہ وہ کسی کنواری لڑکی سے شادی نہ کریں جو ان کی بہنوں جتنی عمر کی ہو، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بڑی عمر کی شادی شدہ عورت سے شادی کرنے کی رغبت کی جو ان کی بہنوں کی دیکھ بھال کرے اور خیال رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت کی

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا:

کیا تم نے شادی کر لی ہے؟

تو میں نے عرض کی: جی ہاں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کنواری یا کہ شادی شدہ؟

میں نے عرض کیا: بلکہ پہلے سے شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی جو تمہیں کھلاتی اور تم اسے کھلاتے؟

میں نے عرض کیا: میری بہنیں تھیں تو میں نے پسند کیا کہ کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو ان کی کنگھی کیا کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے اور خیال رکھے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جانے والے ہو جب پہنچو تو بچے کی رغبت رکھو"

صحیح بخاری حدیث نمبر (1991) صحیح مسلم حدیث نمبر (715).

اور بخاری کی روایت میں ہے:



"انہیں تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے اور ادب سکھائے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (2257).

اور ایک روایت میں ہے :

جا بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں :

"جب رسول کریم صلی اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ آیا تم نے کنواری سے شادی کی یا شادی شدہ عورت سے؟ تو میں نے عرض کیا: شادی شدہ سے تو آپ نے مجھے فرمایا:

تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی وہ تجھے کھلاتی اور تم اسے کھلاتے

میں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے، یا عرض کیا وہ شہید ہو گئے تو میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، اس لیے میں نے ان جیسی ہم عمر لڑکی سے شادی کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ نہ تو وہ ان کو ادب سکھانگی اور نہ ہی تربیت کریگا اور نہ ان کا خیال رکھے گی اور نہ کچھ بھال کر سکے گی اس لیے میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کا خیال رکھے اور انہیں ادب سکھائے اور ان کی دیکھ بھال کرے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (2805) صحیح مسلم حدیث نمبر (715).

جا بر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد فوت ہوئے اور انہوں نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑیں تو میں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کر لی، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا:

اے جا بر تم نے شادی کر لی؟ تو میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا: کنواری سے یا کہ شادی شدہ سے؟

میں نے عرض کیا: بلکہ شادی شدہ عورت سے تو آپ نے فرمایا: تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تم اس سے کھلیتے اور وہ تم سے کھلیتی، تم اسے ہنساتے اور وہ تم کو ہنساتی؟

تو میں نے عرض کیا: عبد اللہ فوت ہوئے اور بیٹیاں چھوڑ گئے اور میں نے ناپسند کیا کہ ان جیسی ہم لڑکی لاؤں اس لیے میں نے ایک عورت سے شادی کی جو ان کی دیکھ بھال کرے اور خیال رکھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ آپ کو برکت سے نوازے یا فرمایا: آپ کو خیر و بھلائی سے نوازے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5052).

شیخ مصطفیٰ الرجبانی کہتے ہیں:

اور جو نکاح کرنا چاہے (اس کے لیے کنواری لڑکی سے نکاح کرنا مسنون ہے) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا:

"تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تم اس سے کھلیتے اور وہ تم سے کھلیتی" متفق علیہ

(لیکن یہ کہ اگر شادی شدہ عورت سے نکاح کرنے میں کوئی رنج مصلحت ہو) تو مصلحت کا خیال کرتے ہوئے اسے کنواری پر مقدم کیا جائیگا"

دیکھیں: مطالب اولیٰ النہی (10-9/5).



والله اعلم.